

ایگزیکٹو سمری - مذہبی محافظ خانے کے تجزیے کی رپورٹ  
Executive Summary – Religious Archives Survey Report

- برطانیہ کے صوبائی علاقوں میں مذہبی اندراجی ذخائر (آرکائیوز) مذہبی آبادیوں اور معاشرے دونوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ہماری قومی میراث کا ایک اہم جزو ہے۔ ایسے تمام مجموعوں تک رسائی یکساں طور پر دستیاب نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہماری وراثت کے اس حصے کے طور پر ان کے مالکین یا انہیں تشکیل دینے والے ان کی انفرادی حیثیت کو جانتے ہوئے ان کا تحفظ کریں۔ ان میں بہت سے مضامین شامل ہیں اور جہاں یہ دستیاب ہوں یہ تحقیق کرنے والے اہل علم اور خاندانی شجرے بنانے والے ماہرین کے لیے مفید ہوتے ہیں۔
- ان اندراجی ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے امدادی وسائل میں توسیع کر کے ان کو بہتر بنانا چاہیے۔ ایسے ذخائر میں پائے جانے والے خلا کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ ان اندراجی ذخائر کی دیکھ بھال کے لیے انہیں تشکیل دینے والوں کو مشورے، رہنمائی اور وسائل کی ضرورت ہے۔
- جہاں یہ سرگرمی کم ہو وہاں مذہبی حلقوں اور مذہبی رہنماؤں اور با اثر افراد میں اس سرگرمی کو پختگی کے ساتھ تشکیل دینے کے لیے حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے۔ آج کے ڈیجیٹل برقی دور میں یہ اور بھی ضروری ہے کیونکہ مستقبل کے لیے ترتیب دیئے جانے والے اندراج کی تخلیق کے بعد ان کی ایک محتاط انداز میں دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ ایک اچھے انداز میں اندراج کو ترتیب دینے سے لے کر ان کی ایک مؤثر نگہبانی کو چیرٹی کے موجودہ قوانین کی روشنی میں مزید بہتری سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں مذہبی اقلیتوں کے تاریخی اندراج زبانی یا فلمی صورت میں ہوں وہاں ان کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کے لیے انتظامات کئے جانے کی ضرورت ہے۔
- آج کے جدید دور میں مذہبی اندراج کے بارے میں اور ان کی ضروریات کو مذہبی حلقوں میں اور ملک بھر میں پالیسی ترتیب دینے والوں اور بااثر لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے بڑے پیمانے پر وکالت و سفارشات کے ایک عمل کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیئے گئے اقدامات کے سلسلے میں آج کے برطانیہ میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مد نظر رکھا جائے۔
- مالی مدد دینے والے اداروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے کہ وہ اندراجی ذخیروں کی دیکھ بھال اور جہاں لاگو ہو ان تک رسائی کے انتظامات کو مضبوط اور بہتر بنانے میں مدد مہیا کریں۔ اس سے ایسے مواد کی برطانیہ کی تاریخ میں مرکزی اہمیت بنے گی اور ہماری آبادی کی شناخت کی پہچان ہوگی۔
- دی نیشنل آرکائیوز، دی آرکائیو اینڈ ریکارڈز ایسوسی ایشن اور رلیجیئس آرکائیوز گروپ کو دیگر ایسی تنظیموں کی شراکت میں جو مذہبی اندراج کے شعبے میں متواتر دلچسپی رکھتی ہوں مل کر اس شعبے کی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی اور مدد مہیا کرنی چاہئے۔ ایسی مدد کو مزید مؤثر بنانے کی خاطر ایک مناسب طریقہ کار اپنانے کے لیے مزید خصوصی تحقیق اور مشاورت کی جانی چاہئے۔